

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12)

Programme: B.Com. 4th Semester

Batch 2024

Paper: Cost Accounting (BBCM401CCT) کا سٹ اکاؤنٹنگ

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کسی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ لاگت سے کیا مراد ہے؟

2۔ لاگت کھاتوں کے فائدے بیان کیجئے۔

3۔ ذخیرہ کنٹرول سے کیا مراد ہے؟

4۔ ذیل کے تفصیلات کی مدد سے پہلے آئے پہلے جانے کے طریقے پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔

اجرائی		Received حاصلات		تاریخ
Quantity مقدار	تاریخ	Rate شرح	Quantity مقدار	
200	4 فروری 2022	6.00	400	1 جنوری 2022
400	10	7.00	600	3
500	13	8.00	900	8
500	19	7.50	400	12
500	20	9.00	600	15
		9.50	500	18

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ راست اور بالواسطہ مال کے درمیان امتیاز کیجئے۔

6۔ ذیل کے تفصیلات کی مدد سے سادہ اوسط (Simple Average Method) طریقہ پر اسٹور لیجر تیار کیجئے۔

Issued اجرائی		Received حاصل			
مقدار	تاریخ	کل قیمت	قیمت فی اکائی	مقدار	تاریخ
	8 جنوری 2022	3000	10	300	1 جنوری 2022
200	8	7200	12	600	4
300	15	7000	14	500	10
400	20	4800	16	300	18

7۔ ذیل کی تفصیلات سے EOQ دریافت کیجئے۔

سالانہ استعمال کی مقدار 2400 اکائیاں۔ آرڈرنگ کاسٹ 20 روپے فی آرڈر، قیمت فی اکائی 50 روپے، گودام کے اخراجات 10%۔

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

Programme: B.Com. 4th Semester

Batch 2024

Paper: Cost Accounting

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ: کسی دو سوالوں کے جواب دیجئے

1- ترغیبی منصوبوں کے فائدے بیان کیجئے۔

2- بالائی مصارف کسے کہتے ہیں۔

3- اجرت میں شامل غیر مالی ترغیبات کو بیان کیجئے۔

4- ارشد ایک مزدور ہے۔ اس کو ماہانہ 12000 روپے ماہانہ ادا کیے جاتے ہیں۔ مہنگائی بھتہ کے طور پر 4000 روپے ماہانہ رقم ادا کی جاتی ہے۔ وہ اجرت پر 10% بونس کا حقدار ہے۔ آجر پر اوپڈنٹ فنڈ کو اجرتوں کا 8% اور ایس آئی اسکیم کے لیے 2% ادا کرتا ہے۔ ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس اسکیم میں ارشد اجرت کا 1% ادا کرتا ہے۔ آجر فیکٹری کے حدود میں مزدوروں کے لیے ایک کینٹین چلاتا ہے، جہاں رعایتی دام پر چائے اور ظہرانہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کینٹین کو آجر امداد (سبسائیڈی) کے طور پر 40000 روپے فراہم کرتا ہے۔ فیکٹری کے 400 ملازمین اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حسب معمول تفضیع اوقات 10% ہیں۔ ایک مہینہ میں کام کے 25 دن ہیں اور ایک دن میں 8 گھنٹے کام کیا جاتا ہے۔ مزدور 20 / 1 دن معہ اجرت رخصت کا حقدار ہے۔ فی گھنٹہ محنت لاگت دریافت کیجئے۔

حصہ دوم

(5x1=5)

نوٹ کسی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5- تحتہ لاگت کسے کہتے ہیں اس کی خصوصیات بیان کیجئے۔

6- 31 / ڈسمبر 2021 ختم سال کے لیے 15,00,000 روپے میں ٹھیکہ کے لیے درجہ ذیل اخراجات ادا کیے گئے۔

خام مال 2,45,000 روپے، مزدوری 3,50,000 روپے، مشینری 60,000 روپے، بالائی مصارف 28,000 روپے

31/ ڈسمبر 2021 پر اس کنٹراکٹ پر حاصل نقدی 5,00,000 روپے جو مصدقہ کام کا 80% کو ظاہر کرتی ہے اختتام پر ہاتھ میں خام مال 40,000 روپے تھا۔ مشینری پر 20% فرسودگی عاید کرتے ہوئے ٹھیکہ کھاتہ تیار کیجئے۔

7۔ درجہ ذیل کی مدد سے پراسس اکاؤنٹ تیار کیجئے۔ بالواسطہ مصارف 2700 کی تخصیص اجرتوں کے تناسب میں کیجئے۔

	A	B	C
خام مال	15000	9000	6000
اُجرتیں	6000	4500	3000
راست اخراجات	3000	1500	900

یہ فرض کیجئے کہ افتتاحی اور اختتامی زیر تکمیل کام اور اسٹاک نہیں ہے۔